

برائے فوری اجراء

CUTRIC کو حکومت کینیڈا اور FCM کی جانب سے برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے \$175K کی سرمایہ کاری موصول ہوئی

برامپٹن، آن (5 جولائی 2022) – آج، MP رومی سوہاتا نے محترم جانناہن ولکنسن، منسٹر آف نیچرل ریسورسز؛ روری نیسان، ہیلتھ ریجن کی کونسلر اور فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیٹیز (FCM) کی رکن؛ مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر اور ڈپٹی میئر آف برامپٹن، میرین میڈ وارڈ، میئر آف برلنگٹن؛ اور جوزفا پیٹرونک، کینیڈین اربن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انویشن کنسورشیم (CUTRIC) کی پریزیڈنٹ اور سی ای او کی جانب سے FCM کے گرین میونسپل فنڈ (GMF) کے ذریعے برامپٹن میں ٹرانزٹ میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔

CUTRIC کو سٹی آف برامپٹن کی گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لانے کی حکمت عملی کے تحت کوششوں میں مدد دینے کے لیے اور عوامی ٹرانزٹ پر سواری کی مستقبل میں طلب کو پورا کرنے کے لیے امکان پذیری کے مطالعے کے لیے \$175,000 موصول ہوئے ہیں۔ اس مطالعے کا مقصد برامپٹن ٹرانزٹ کے روٹ نیٹ ورک پر زیرو ٹیل پائپ ایمیشن بسز (ZEBs) استعمال کرنے کے قابل عمل ہونے کا تعین کرنے کے لیے جائزہ لینا ہے۔

یہ مطالعہ CUTRIC کے اندرونی طور پر تیار کردہ پریڈکٹو ماڈلنگ ٹول، RoutΣ.i™ کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ ٹول موجودہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ZEBs یا FCEBs کو اختیار کرنے قابل عمل ہونے اور فوائد کا تعین کرنے کے لیے فعلی حالات، مثلاً روٹ کے نقشے، ٹرانزٹ کے شیڈولز، موسم اور مسافروں کی تعداد، کو شامل کرتا ہے۔

الیکٹرک ZEB بس فلیٹ پر منتقلی سٹی کے اپنے کاربن فوٹ پرنٹ میں کمی لانے اور شہر کو ایک گرین سٹی بنانے کے وعدوں کی تکمیل کی جانب گامزن کرتا ہے۔ ZEBs ماحولیاتی استحکام کے لیے عوامی نقل و حرکت کی گاڑیاں ہیں جو ہماری کمیونٹی کو ایک مؤثر، پرسکون اور صاف ستھرا سفر فراہم کریں گی۔

ٹرانزٹ بسوں کو بجلی پر منتقل کرنا شہر کے عوامی نقل و حرکت کے نظام میں گرین ہاؤس گیسوں (GHGs) میں برامپٹن میں 2050 تک 80 فیصد تک کمی لانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا۔ 133 ڈیزل الیکٹرک ہائبرڈ Züm بسوں کے موجودہ بیڑے میں اضافہ کرتے ہوئے، برامپٹن ٹرانزٹ نے مئی 2021 میں بیٹری پر چلنے والی پہلی آٹھ زیرو ایمیشن بسیں اور چار ہائی پاور اور ہائی چارجرز کی سہولیات متعارف کرائی ہیں۔ بسوں کے پورے بیڑے کو مکمل طور پر ZEBs میں منتقل کرنے سے تقریباً 115 ٹن CO2 فی بس، ہر سال، کل تقریباً 53,000 ٹن سالانہ GHG یا تقریباً 12,000 مسافر گاڑیوں کو سڑکوں سے (GHGs) کے ٹن کے حساب سے) ہٹانے کے برابر ہونے کی توقع ہے۔

FCM کی جانب سے چلایا جانے والا GMF حکومت کینیڈا کی جانب سے وقف رقم کے ذریعے فنڈ یافتہ ہے۔ GMF مقامی حکومتوں کو قابل استحکام طریقہ ہائے کار پر زیادہ تیزی سے منتقل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا فنڈنگ، وسائل اور تربیت کا منفرد مجموعہ میونسپلٹیوں کو وہ ٹولز دیتا ہے، جو انہیں لچک پیدا کرنے اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لانے کے لیے درکار ہیں۔

نکس

• [کینیڈا اور FCM برامپٹن اور برلنگٹن میں کم اخراج والے ٹرانزٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں](#)

"سٹی آف برامپٹن میں صفر اخراج والی بسوں کے لیے CUTRIC کے امکان پذیری کے مطالعے میں حکومت کینیڈا اور FCM کی سرمایہ کاری کے لیے ان کا شکریہ۔ \$175K کی یہ سرمایہ کاری برامپٹن اور کینیڈا میں قابل استحکام ٹرانزٹ کے اگلے درجے کی براہ راست معاونت کرے گی، جبکہ برامپٹن اگلے پانچ سالوں کے دوران اپنی سڑکوں کے لیے 450 صفر اخراج والی بسیں خریدے گا۔ برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور ہم مل کر اپنے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کریں گے اور اپنی کمیونٹی کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں اور معاونین حکومت کینیڈا، FCM اور CUTRIC کے ساتھ ایک قابل استحکام، کم کاربن والے پبلک ٹرانزٹ کا نظریہ شریک کرتا ہے۔ GMF فنڈنگ کی بدولت، CUTRIC کا امکان پذیری کا مطالعہ GHG کی کمی، خرچ اور فوائد اور شیڈول بندی کے تجزیے، ہمارے برامپٹن ٹرانزٹ نیٹ ورک کے ہر روٹ کے لیے موزوں ترین ٹیل پائپ سے صفر اخراج والی بسوں کی اقسام اور ہمارے فلیٹ کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے دیگر اہم عناصر کے حوالے سے سٹی کو بصیرتیں فراہم کرے گا۔"

- مارٹن میڈیروس، ڈپٹی میئر، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن صاف نقل و حمل کے اقدامات میں رہنماء کردار ادا کرتا ہے اور ہم حکومت کینیڈا اور FCM کی جانب سے CUTRIC کے ذریعے برامپٹن ٹرانزٹ میں \$175K کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زیرو ایمیشن بسیں برامپٹن کو گرین سٹی کے طور پر استوار کرنے کے اس کونسل کے اس دور کے عزم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے ایک مزید ماحول دوست مستقبل میں ہماری مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم اور ہمارے پارٹنرز کا شکریہ۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"FCM بورڈ کی ایک رکن کے طور پر، مجھے پورے کینیڈا میں ٹرانزٹ ایجنسیوں کو موجودہ فلیٹس کو صفر اخراج اور کم کاربن والی ٹرانزٹ ٹیکنالوجیز پر منتقل کرنے سے جڑے مسائل، مواقع اور حلوں کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے کے متعلق کئی اہم گفتگوؤں کا حصہ بننے کی مراعت حاصل ہوئی ہے۔ برامپٹن صفر اخراج والے ٹرانزٹ میں رہنماء کردار ادا کر رہا ہے اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ تمام شامل ایجنسیاں اور حکومتی درجات ایک مزید ماحول دوست ٹرانزٹ نیٹ ورک بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔"

- روینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ سٹی آف برامپٹن؛ بورڈ ممبر، FCM

"سٹی آف برامپٹن ایک اچھی طرح سے مربوط، قابل استحکام اور توانائی سے مؤثر نقل و حرکت کے نظام اور سب کے لیے ایک سرسبز و شاداب شہر بنانے کے لیے پُر عزم ہے۔ حکومت کینیڈا، FCM اور CUTRIC کے تعاون کے لیے ان کا بے حد شکریہ۔ ہم برامپٹن میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں گے۔"

- پال موربسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ٹرانزٹ قابل استحکام ٹرانزٹ میں رہنماء ہے اور صفر اخراج والی بسیں اپنے فلیٹ کو بجلی پر منتقل کرنے کے ہمارے عہد کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے بجلی پر منتقلی کے پراجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری لانے کے لیے CUTRIC اور کئی اہم فریقین کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے معاونت دینے کے لیے ہمارے شراکت داروں کا شکریہ۔"

- ایلکس ملوچیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ، سٹی آف برامپٹن

"2015 میں میرے انتخاب کے بعد سے، میں نے ذاتی طور پر اس اہم کردار کا مشاہدہ کیا ہے، جو CUTRIC نے کم اخراج والے ٹرانزٹ پر ہماری منتقلی میں ادا کیا ہے۔ یہ مختص کردہ فنڈنگ ان کئی میں سے ایک ہے، جو سٹی آف برامپٹن کو، CUTRIC کے ساتھ شراکت داری میں، موصول ہو رہی ہیں، جبکہ ہم اپنے مستقبل کو بجلی پر منتقل کر رہے ہیں، آلودگی کم کر رہے ہیں اور نقل و حمل کے صاف انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جو ہمیں کل صفر اخراج کے ایک قدم قریب لا رہا ہے۔"

- روبی سوہتا، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن نارٹھ

"برامپٹن اور برلنگٹن، اونٹاریو، میں صاف ذرائع آمد و رفت کی فنڈنگ کے لیے آج کا اعلان آلودگی کم کرنے، اپنی کمیونٹیوں کو بہتر بنانے اور صاف ٹیکنالوجیوں میں اپنی جدت کو بڑھانے میں کینیڈینز کی معاونت کرنے کی ہماری حکومت کی ترجیح کے حوالے سے ایک کلیدی پیش قدم ہے۔ حکومت کینیڈا اس شعبے میں CUTRIC کی قیادت کی معاونت کرنے پر بے حد پرمسرت ہے۔ میں ان کی قیادت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا"

- محترم جاناتھن ولکنسن، منسٹر آف نیچرل ریسورسز

"موسمیاتی تبدیلی سے اس جنگ میں ہر شخص کا ہونا انتہائی اہم ہے۔ پورے کینیڈا میں میونسپلٹیاں پرجتت سلیوشنز کے ذریعے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو نوکریاں اور ماحولیاتی لچک پیدا کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی کمیونٹیوں میں ماحول دوست انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاریاں ہماری ہوا کو صاف تر اور ہماری معیشت کو مضبوط تر بنائیں گی اور ہمیں ایک کل صفر مستقبل کے راستے پر ڈال دیں گی۔"

- جناب سٹیون گلیبولٹن، منسٹر آف انوائرنمنٹ اینڈ کلایمٹ چینج

"آج انسان زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں۔ ایک ماحولیاتی طور پر تبدیل شدہ دنیا میں، ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں شہروں کو رہنمائی کرنی چاہیے۔ CUTRIC برامپٹن اور برلنگٹن جیسے شہروں کے ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ شہر ماحولیاتی عمل کے حوالے سے پرجتت سوچ کے پھلتے پھولتے مراکز ہیں۔ ملک کے انفراسٹرکچر اور کم کاربن والی حرکت پذیری کے منظر نامے کو بدلنے کا وقت ابھی ہے۔"

- جوسپیا پیٹرونج، پریزیڈنٹ اور سی ای او، CUTRIC

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹس

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا
multiculturalmedia@brampton.ca

نیچرل ریسورسز کینیڈا
میڈیا ریلیشنز
343-292-6100

media@nrcan-rncan.gc.ca
ہمیں ٹویٹر پر فالو کریں: @NRCan (<http://twitter.com/nrcan>)

کیٹن نیملہارڈ
پریس سیکریٹری
آفس آف دی منسٹر آف نیچرل ریسورسز
613-323-7892
keean.nembhard@nrcan-rncan.gc.ca

FCM میڈیا ریلیشنز
613-907-6395
media@fcm.ca